



بکری، کتا اور گا اے

Goat, Dog, and Cow

- ✎ Fabian Wakholi
- 👤 Marleen Visser, Ingrid Schechter
- 🗣️ Samrina Sana
- 💬 Urdu / English
- 📊 Level 2





بکری، کتا اور گا اے بہت اچھے دوست تھے۔ ایک دن وہ
ٹیکسی پر سفر کر اے لکے۔

...

Goat, Dog, and Cow were great friends. One
day they went on a journey in a taxi.



سفر کے اختتام پر ڈرائیور نے اُن سے کرایہ ادا کرنے
کے لیے کہا۔ گا اے نے اپنا کرایہ دے دیا۔

...

When they reached the end of their journey,
the driver asked them to pay their fares. Cow
paid her fare.



کہتے نے اضافی کرایہ دے دیا، کیونکہ اُس کے پاس کھلمے
پیسے نہیں تھے۔

...

Dog paid a bit extra, because he did not have
the correct money.



جب ڈرائیور کتے کو اُس کا بقیہ دینے ہی لگا تو بکری کرایہ ادا
کیئے بغیر بھاگ گئی۔

...

The driver was about to give Dog his change
when Goat ran away without paying anything.



ڈرائیور کو غصہ آیا۔ وہ کہتے کو بقایا دیئے بغیر وہاں سے چلا گیا۔

...

The driver was very annoyed. He drove away without giving Dog his change.



اسی وجہ سے آج بھی کتا گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا ہے تا
کہ وہ اُس ڈرائیور کو تلاش کر کے اُس سے اپنے پیسے
نکلا سکاے۔

...

That is why, even today, Dog runs towards a
car to peep inside and find the driver who
owes him his change.



بکری گاڑی کی آواز سن کر دور بھاگتی ہے۔ اُسے ڈر ہے
کہ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اُسے گرفتار کر لیا جائے گا۔

...

Goat runs away from the sound of a car. She
is afraid she will be arrested for not paying
her fare.



اور گا اے کبھی گاڑی کے آنے کی پروا نہیں کرتی۔ وہ اپنا
وقت اے کرسٹک پار کرتی ہے۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ
اُس نے اپنا مکمل کرایہ ادا کیا ہوا ہے۔

...

And Cow is not bothered when a car is
coming. Cow takes her time crossing the road
because she knows she paid her fare in full.



Storybooks Mauritius

global-asp.github.io/storybooks-mauritius

بکری، کتا اور گا اے

Goat, Dog, and Cow

Written by: Fabian Wakholi

Illustrated by: Marleen Visser, Ingrid Schechter

Translated by: Samrina Sana (ur)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks Mauritius](http://global-asp.github.io/storybooks-mauritius) in an effort to provide children's stories in Mauritius's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

